



Welland®, the Welland logo™ and HydroFrame® are trademarks of CliniMed (Holdings) Ltd.

PID 8584 • 20-08-2020

HydroFrame® mini

EN

Flange extenders – to provide extra security/comfort for an ostomy appliance.

Caution: For use on intact skin only. Reuse of any single use device may compromise safety and performance. Discontinue use if irritation occurs.

In the event of a serious incident, seek medical advice before contacting the manufacturer, Welland Medical Ltd., and your local Competent Authority via your distributor or importer.

DE

Basisplattenerweiterung – für extra Sicherheit/Komfort von Stomaprodukten.

Vorsicht: Nur auf intakter Haut anwenden. Die Wiederverwendung von Einwegprodukten kann die Sicherheit und Leistung beeinträchtigen. Falls Reizungen auftreten, Anwendung abbrechen.

Holen Sie bei einem schwerwiegenden Vorfall

ärztlichen Rat ein, bevor Sie sich über Ihren Händler oder Importeur an den Hersteller Welland Medical Ltd. und Ihre zuständige Behörde vor Ort wenden.

NL

Flens extenders – voor extra veiligheid/comfort bij stoma-apparaatuur.

Let op: Uitsluitend voor gebruik op intacte huid. Hergebruik van instrumenten voor eenmalig gebruik kan afbreuk doen aan de veiligheid en prestatie. Beëindig gebruik bij irritaties.

Bij ernstige incidenten, raadpleeg eerst een arts voordat u contact opneemt met de fabrikant, Welland Medical Ltd., en de lokale bevoegde autoriteit via uw distributeur of importeur.

IT

Estensori per flange - per garantire sicurezza/comfort supplementare a un dispositivo per stomia.

Attenzione: utilizzare solo su

cute non lesionata. Il riutilizzo del dispositivo monouso può compromettere la sicurezza e le prestazioni. Interrompere l'uso in presenza di irritazione.

In caso di inconveniente grave, consultare un medico prima di contattare il produttore, Welland Medical Ltd., e l'autorità locale competente tramite il proprio distributore o importatore.

BG

Разширители на фланци – за предоставяне на допълнителна сигурност/комфорт за остомичното приспособление.

Внимание: Да се използва само на чиста кожа. Повторната употреба на всяко устройство за еднократна употреба може да компрометира безопасността и ефикасността му. Употребата да се преустанови при появя на дразнене.

Flangeforlængere – giver ekstra sikkerhed/komfort ved brug af stomiartikler.

Forsiktig: Må kun anvendes på intakt hud. Genanvendelse af en engangsanordning kan kompromittere sikkerhed og

Ltd., и компетентния местен орган чрез Вашия дистрибутор или вносител.

SV

Flänsförlängare – för att ge extra trygghet/komfort vid en stomienhet.

Försiktighet: Enbart för användning på intakt hud. Återanvändning av engångsprodukter kan äventyra säkerheten och prestandan. Avbryt användningen om irritation uppstår.

NO

RO
Extensiile pentru flanșe – pentru a asigura un plus de siguranță/ confort pentru un dispozitiv stomic.

Atenție: A se utiliza numai pe pielea intactă. Reutilizarea oricărui dispozitiv de unică folosință poate compromite siguranța și performanța.

Utilizarea trebuie să interupă în cazul apariției iritațiilor.

În cazul unui incident grav, solicitați asistență medicală înainte de a contacta fabricantul, Welland Medical Ltd., și autoritatea competență locală prin intermediu distribuitorului sau al importatorului.

PT
Prolongamentos de encaixe – para proporcionar segurança/ conforto extra para um sistema de ostomia.

Cuidado: Para utilização apenas em pele intacta. A reutilização de qualquer dispositivo de utilização única pode comprometer a segurança e o desempenho.

Interromper a utilização caso se verifique irritações.

No caso de um incidente grave, procurar aconselhamento médico antes de contactar o fabricante, a Welland Medical Ltd., e a Autoridade Competente local através do respetivo distribuidor ou importador.

PL

Przedłużenia kolnierzy — zapewniająwiększy poziom bezpieczeństwa/komfortu użytkowania urządzenia stomijnego.

Uwaga: Używać tylko na nieuszkożonej skórze. Ponowne wykorzystanie jakiegokolwiek urządzenia jednorazowego użytku wiąże się z zagrożeniem bezpieczeństwa i ryzykiem nieprawidłowego działania.

W przypadku wystąpienia podrażnienia należy przerwać stosowanie.

W przypadku wystąpienia poważnego incydentu należy skontaktować się z lekarzem, a następnie z producentem,

firmy Welland Medical Ltd., i właściwym organem lokalnym za pośrednictwem dystrybutora lub importera.

LT

Jungiu pailgintuvai skirti suteikti papildomą apsaugą / komfortą dėl ostomijos prietaiso taikymo.

Dėmesio: Naudoti tik ant nepažeistos odos. Bet kurio vienkartiniu prietaiso pakartotinis naudojimas gali pakenkti jo saugumui ir veikimui. Nutraukti naudojimą, jei atsiranda dirgimas. Rimto įvykio atveju kreipkitės į gydytoją prieš susisiekiami su gamintoju, „Welland Medical Ltd“ ir vietas kompetentinga institucija per savo platintoja ar importuotoja.

LV
Atloka pagarinājumi – sniedz papildu drošību/komfortu stomijas aprīkojumam.

Uzmanību: Paredzēts lietošanai uz veselas ādas. Vienreizējas lietošanas ierīču atkārtota izmantošana var apdraudēt

drošību un rezultātus. Pārtrauciet izmantošanu, ja rada kairinājumu. Nopietna negajuma apstākļos vērsieties pēc ārsta palīdzības, iekams sazināties ar ražotāju Welland Medical Ltd. un jūsu vietējo atbildīgo iestādi ar izplatītāja vai importētāja starpnieci.

EL

Επεκτάσεις βάσης – για την παροχή επιπλέον ασφάλειας/άνεσης για μια συσκευή στομίας.

Προσοχή: Για χρήση σε άθικτη επιδερμίδα μόνο. Η επαναχρησιμοποίηση συσκευών που προορίζονται για μία και μόνο χρήση μπορεί να μειώσει την ασφάλεια και την απόδοσή τους. Διακόψτε τη χρήση αν

ET
Äärikute laiendajad - pakuvad stoomiseadmele lisatervalust ja -kindlust.

Ettevaatust: Kasutada vaid vigastamata nahal. Ühekordseks kasutuseks mõeldud seadme udobnost za aparatom za ostomiju.

Für den Anwendungsbereich – der Haut – bestimmt. Eine Wiederbenutzung kann die Sicherheit und die Leistungsfähigkeit beeinträchtigen. Bitte entfernen Sie das Gerät, wenn es zu einer Rötung oder Schwellung kommt.

HI

सावधानः केवल अखंड त्वचा पर इस्टेमाल के लिए। एक बार के उपयोग वाली डिविड्स का फरि से इस्टेमाल करने से सुरक्षा और कार्य-निष्पादन में कमी आ-सक्री है। यद्यजलन हो, तो इस्टेमाल रोक दें।

EL

Επεκτάσεις βάσης – για την παροχή επιπλέον ασφάλειας/άνεσης για μια συσκευή στομίας.

Προσοχή: Για χρήση σε άθικτη επιδερμίδα μόνο. Η επαναχρησιμοποίηση συσκευών που προορίζονται για μία και μόνο χρήση μπορεί να μειώσει την ασφάλεια και την απόδοσή τους. Διακόψτε τη χρήση αν

ja alles siis vōtkē ühendust tootja, Welland Medical Ltd ning kohaliku edasimüüja või importija kaudu pādeva asutusega.

RU

Производящий прирубнице – за dodatnu sigurnost/udobnost pribora za ostomiju.

Определите на фланец — для обесцения дополнительной защиты/комфорта при использовании стомы.

莫斯عات الشفقة - توفر مزيداً من الأمان / الراحة لجهاز الفغر.

تذكير: لاستخدام على الجلد السليم فقط. قد تؤدي إعادة استخدام أي جهاز مخصص لاستخدام مرة واحدة فقط إلى الإخلال بسلامة والأداء. يجب وقف الاستخدام في حالة حدوث تهيج.

ja alles siis vōtkē ühendust tootja, Welland Medical Ltd ning kohaliku edasimüüja või importija kaudu pādeva asutusega.

TH

ตัวขยายแเพ้นร่อง - เพื่อเพิ่มความปลอดภัย/ความ舒適ของอุปกรณ์ชั้นต่ำของคุณ

การใช้งาน: สำหรับผิวที่สมบูรณ์แบบเท่านั้น การนำผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครั้งเดียวมาใช้ใหม่อาจส่งผลต่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพการทารุณ化ของคุณ

اربط فلانج- برای ایجاد اینمی/راحتی بیشتر برای ازار استومی.

تحذیص: فقط برای استفاده روی پوست سالم.

ارائه: فقط برای استفاده روی پوست سالم.

ja alles siis vōtkē ühendust tootja, Welland Medical Ltd ning kohaliku edasimüüja või importija kaudu pādeva asutusega.

AR

Producătorul prirubnice – за dodatnu sigurnost/udobnost pribora za ostomiju.

خواص: چنانچه مجدد باعث لطمہ دیدن اینمی و علکرد می‌شود. در صورت بروز حساسیت، از آدمه استفاده خودداری کنید.

در صورت بروز حاده جدی، پیش از Welland Medical Ltd

طريق توزيع كنده يا وارد كننده، از پر شک

کمک بخواهید.

ماراچي اونگ - مشتملیم لاجدلت

البته قبل الاتصال بالشركة المصنعة، وبالنسبة لـ "Welland Medical Ltd."، والجهة المحلية المختصة عبر الموزع أو المستورد.

ماراچي اونگ - مشتملیم لاجدلت

ja alles siis vōtkē ühendust tootja, Welland Medical Ltd ning kohaliku edasimüüja või importija kaudu pādeva asutusega.

HE

תוצרתprirubnice – za dodatnu sigurnost/udobnost pribora za ostomiju.

ההנחיות/הנחות של התקנים Welland Medical Ltd

הטביה/הנחות של התקנים Welland Medical Ltd